

مصدر اصطلاحی - بقول بحر	بجائی رسا نم (اروو) جگہ پر پہنچانا - مقام پر پہنچانا بجائی گنجیدن
-------------------------	--

کمال شادمانی نمودن مولف عرض کند کہ فارسین	بجائی رسیدن استعمال - صاحب اندوکر
---	--

گویند کہ او از شادمانی در خودنی گنجد یا در جامه	این کردہ از معنی ساکت مولف عرض کند کہ معنی
---	--

گنجد و نی گویند کہ در خانہ نی گنجد پس مصادرا ص	حقیقی است یعنی بمقام و منزل رسیدن (نظیری)
--	---

در خود گنجیدن (در جامہ گنجیدن) را کہ بجای	آزادگان بجائی رسیدند و تا آن زمان رہرواں کہ
---	---

خوش می آید بہ تمہیم جای آوردن دست نہ شد	گر و پس کارواں خورداروو) جگہ پر پہنچاند مقام
---	--

(اروو) جامہ میں بچولانہ سمانا - دیکھو استخوان در	پہنچنا - منزل پر پہنچنا -
--	---------------------------

پوست نہ گنجیدن -	بجائی چیزی کردن مصداق - خان آرزو
------------------	---

بقول انندہ بحوالہ فرنگی لک معنی بنیر و بدون موک	در سراج گوید کہ در حق کسی کار کردن سنا میں از کلام
---	--

عرض کند کہ جز بمعنی میرا و سوا وغیرہ بجای خوش می آید و در	سدی بر معنی دوم لفظ در بجای گذشت مولف
---	---------------------------------------

موقدہ اول ناماست پس (اروو) بحر بقول معنی	عرض کند کہ معنی حقیقی است کہ لفظ در بجای (معنی رفت)
--	---

فارسی - حرف ربط - جز - سوا سے - علاوہ - بن - بنیر -	بجای خودش گذشت (اروو) کسی کے حق میں گزرتا
---	---

بجس بقول برہان و جامع و موید بفتح اول و ثانی و سکون سین بی نقطہ (ا) نرمہ یعنی کہ آن
--

پڑہائی بہتی باشد و (۲) معنی نرمی و سستی ہم آمدہ - خان آرزو در سراج بزرگ ہر دو معنی بالا گوید کہ صاحب
--

رشیدی بہ جیم فارسی و شین مجہ بہ ہین معنی آورده و قوسی بہ سین مہلہ بمعنی سستی و پیری نوشته

و در جہانگیری مشقت و رنج نیز گفته و ہیچ یک ازین سنا و روجہ و اغلب کہ در نرمہ یعنی و نرمی و
--

سستی تصحیف واقع شدہ لیکن تعین تصحیف ہیچ یکی ازین ہر دو متوال کردہ - صاحب ناصر ذکرا
--

می کند و گوید که پیش به شین معجمه مبتدل است مولف عرض کند که صاحب جهانگیر می معنی مشتق
 بر (بچش) می آرد که به جیم فارسی و شین معجمه می آید - مخفی مباد که بچش بقول محیط المحيط به فتح مؤلف
 و سکون جیم عربی لغت عرب است بمعنی رواں شونده و آب جاری درواں کننده لازم
 و متحدی هر دو پس فارسیان به تصرف و اعراب و سنی پژه بینی را که رواں کننده نزله
 و ماغ است بدین اسم موسوم کردند و این مفرس باشد و معنی دوم را بر سهیل مجاز گیریم که نرم
 بینی هم نرم است و خیال خود نسبت معنی مشتق بر بچش ظاهر کنیم که ازین جا تعلق ندارد و
 قول صاحب جامع که از اهل زبانست برای معنی دوم معتبر و اینم و برخلاف محقق تصحیف
 پسندی گوئیم که این قسم تحقیق چنانکه اومی کندشان محققین نباشد (ارو و) (دا) نهنا - بقول
 آصفیه هندی اسم مذکر سوراخ بینی - منخره - وکن میں نکی پوری کہتے ہیں - (۲) نرمی سستی - نوشت
بجست | بقول سروری بحواله زفا نگویو بقول برهان بفتح با و جیم و سکون مہله (دا) آو او
 هر چیز باشد و فرمایند که بخای عجمه نیز باین معنی آمده صاحب برهان گوید که (۲) بکسر اول باضی حسنت
 و تقصص کردن نیز صاحبان جامع و ناصری و مؤید و انند هم ذکر هر دو معنی کرده اند مولف
 عرض کند که این را بمعنی اسم جامد فارسی زبان گفته اند و ما هم اتفاق داریم و این قدر صراحت
 مزید کنیم که با جا بقول ساطع لغت سنسکرت بمعنی نامی که می نوازند و هین است اسم مصدر
 با جتا و بجنا که مصاد سنسکرت است و معلوم می شود که اهل هر دو زبان اسم جامد بجست و با جادا
 از ماوه واحد وضع کرده اند و عجیبی نیست که بجست بمعنی صد لغت سنسکرت باشد و فارسیان
 ناواقف از ماخذ در کتابت این سین مہله زائد کردند و سوقیان استعمالش کردند و محاوره خاص
 شد

والله اعلم بحقیقة الحال که قیاس ما بیشتر ازین راه نمی یابد نسبت معنی ووم عرض می شود
که موهده اول زائد است وحت بالفتح و بالضم ماضی مطلق جستن باشد که بالفتح و بالضم می
بمحت کامل معنی این بر صدرش کنیم (دارو) (۱) آواز بقول آصفیه فارسی - اسم موهده
شده - الپ - بانگ - بانگ - پکار - صدا - الخ (۲) مصدر جستن کا ماضی مطلق بای زائد
بجشاک بقول انند بحواله فرنگ فرنگ بکسر اول و فتح دوم و شین معجمه بالف کشیده و
تازی لغت فارسی است بمعنی (۱) نعلبند و (۲) آهنگر و (۳) غله فروش - و دیگری از محققین فارسی
زبان ذکر این نکر و معاصرین معجم بزبان ندارند حیث است که سند استعمال پیش نشد ماخذ این
جزین نباشد که پز آخ لغت فارسی قدیم است بمعنی گذ از معاصرین معجم تصدیق این کنند
ماوه آن پز باشد و بجاش مبدل آن که زای هوز بدل شد به جم عربی چنانکه چوزه و چوچه و
سوز و سوج و شین معجمه مبدل غای معجمه چنانکه فراختن و فراشتن و سارخک و سارخاک
پس بجشابه بای فارسی و جم عربی قلب بعض بجاش است و بجشابه بای عربی عوض
مبدلش چنانکه پت و تب کاف آخر برای نسبت یعنی کسی که باگدا از نسبت دارو - آهنگر است
ومن وجه نعل بند هم و غله فروش را بدین اسم موسوم کردن بلحاظ ماخذ البته خلاف قیاس
و جادارو که این را مفسر س گریه هم از هر دو لغات عرب که بجز بقول منتخب بالتشدید یعنی زدن
و شک بقول انند بمعنی مرد تیز و چالاک پس مرد تیز و چالاک و زدن آهن - آهنگر است
ومن وجه نعلبند و غله فروش را هم توان گفت که غله را کو بیده صاف و پاک کند و این
معنی کنایه باشد (فالاحتر اولی من الاول) و عیبی ندارد که این را بهر سه معنی هم جای گیریم

(ارو و) (۱) نعلبند نذکر بقول آصفیہ - چوپایوں کے ٹموں میں نعل لگانے والا (۲) لوہار بقول آصفیہ
 ہندی - اسم نذکر - آہنگر - خدا - لوسہ کی چیزیں بنانے والا (۳) غلہ فروش - بقول آصفیہ - اسم نذکر -
 بنیا - بقال - اناج بیچنے والا -

بچشک بقول برہان و جامع کبسر اول بروزن سرشک (۱) بمعنی حکیم و دانشمند بود و (۲) مخفف

بچشک ہم کہ بچشک باشد و عبری عصفور خوانند - صاحب ناصری بذر ہر دو معنی نسبت معنی

اول گوید کہ بدیع معنی بچشک ہم آمدہ بہ بای فارسی وزای ہوز - صاحب برہان بچشک را بہ کسر

بای فارسی و کسر زای ہوز بمعنی اول نوشتہ کہ می آید - خان آرزو در سراج بچشک بہ کسر موقدہ

و جیم فارسی بمعنی طبیب و گیاه فروش - آورده گوید کہ بچشک بہ بای فارسی وزای ہوز تبدیل

است و ہم او بر بچشک بہ موقدہ وزای ہوز گوید کہ تحقیق است کہ درین زای فارسی است نہ

تازی چہ تبدیل آن بہ جیم دلالت دارد بریں و صاحب برہان بچشک را بہ کاف فارسی بضم

اول و کسر ثالث آورده و صاحب غیاث بہ کاف عربی مؤلف عرض کند کہ بمعنی اول

بچشک اصل است و اسم جامد فارسی زبان بہ بای فارسی وزای ہوز کسور و بچشک کہ بہ بای موقدہ

وزای ہوز کسر ہر دو می آید بدلیلش کہ بای فارسی بہ موقدہ بدل شود چنانکہ تپ و تپ و انچه خان آرزو

بر بچشک - موقدہ) تحقیق خود بہ زای فارسی ظاہر کند مجر و طبع آزمائی اوست کہ کسی از اہل لغت

ذکر بچشک یا بچشک (بہ زای فارسی نکرد و خود او ہم بجایش تجاہل کردہ و توجہی کہ پیش کردہ

مسئلہ تبدیل جیم عربی است و فی دانند کہ جیم عربی بہ زای ہوز و بالعکس آن ہم بدل شود چنانکہ در

بحث ذکرش کردہ ایم - بالجملہ بچشک تبدیل بچشک است کہ زای ہوز بہ جیم بدل شد چنانکہ

چوزه و چوبه و سوز و سونج و بچشک که بابای موحده و جیم فارسی بکسر تین به همین معنی می آید
 مبتدل بزشک گیریم که زای هوز به جیم فارسی هم بدل شود. صاحب قانون دستگیری ذکر این تبدل
 بوشیقه همین سند کرده و جاواری که بچشک را که به جیم فارسی می آید مبتدل همین بچشک گیریم که جیم
 عربی بفارسی بدل شود چنانکه کاج و کلج این است حقیقت معنی اول. حال عرض می شود نسبت
 معنی دوم که اصل این بچشک است به ضم کاف فارسی و کسر جیم عربی و مبتدل آن بچشک بکسر
 موحده و کسر جیم عربی که کاف فارسی موحده بدل شود چنانکه گاله و باله اما بر کسر اول بچشک اعتراف
 داریم که چرا بضم اول گیریم و مخفف همین بچشک است که بحدف نون آمده چنانکه
 ایشان و ایشان و این و آبی و اگر بچشک را به کاف عربی معتبر دانیم چنانکه بعضی محققین خیال
 کرده اند که تصفیه آن بجایش کنیم، اندرین صورت هم تبدیل کاف عربی به موحده موافق قیاس
 است چنانکه کوشاسب و بوشاسب خلاصه این است که تغییر حرکات در تبدیل نتیجه محاوره و قیاس
 است که از حقیقت لفظ خبر ندارند و میزین (اتباع زبان شان کنند و دیگر هیچ - (ارو) (۱)
 حکیم بقول آصفیه - عربی - اسم مذکر - وانا - عقلمند - هوشیار - فیلسوف - طبیب - بید (۲) بچشک
 بقول آصفیه - فارسی - اسم مؤنث - چرپا - گوزیا -

<p>بجق حق آمدن مصدر اصطلاحی - بقول</p>	<p>تا توانی هنر خویش نهان ساز چو عیب و سالک از</p>
<p>بهر شور و غوغا نمودن - مخفی نهادن (بجق حق) بقول</p>	<p>بے هنرانی که بجق آیند از مولف عرض کند که</p>
<p>انند بکسر هر دو جیم عربی لغت عرب است مخفف</p>	<p>ما سجد که در لغات عرب جستم (بجق حق) و (حقیقه)</p>
<p>(حقیقه و حقیقه) و حقیقه بمعنی فریاد زدن (سالک می)</p>	<p>را نیا فتم - صاحب انند و مره دار قول خود است</p>

اما جمع جمع بہ خای معجم عوض قاف در عربی زبان معنی کرنا۔ ہندی۔ بکواس کرنا۔ یا وہ گوئی کرنا۔
 شور و غوغا کروں و بانگ آون آمدہ (کذا) ہرزہ سرائی کرنا۔ صاحب آصفیہ نے دھجک
 فی محیط المیض (پس چیزیں نیست کہ فارسیان ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ ہندی اسم بونٹ
 معجمہ رابقت بدل کردہ مفترس کردہ اند چنانکہ بکبک۔ جک بک۔ بکواس۔ یادہ گوئی۔ ہرزہ
 پختماق و چتاق و برخ و برق (ارو) جھک جھک سرائی یا جیسے ہر روز کی جھک جھک سے میرا ناک میں دم تھا

ہجکم بقول سرور می بحیم و کاف تازی بوزن شبنم خانہ تابستانی باشد (روو کی ۵) از تو خالی
 نگار خانہ نجم پڑ فرش دیبا کشیدہ بر ہجکم پڑ صاحب برہان این را یہ ہمین معنی بہ جمیم فارسی آوردہ و
 خان آرزو در سراج بر (ہجکم بہ جمیم فارسی) گوید کہ ہشکم بہ شین معجمہ عوض جمیم فارسی ہم آمدہ و فرماید کہ
 صاحب رشیدی بکسر اول و بای فارسی (ہجکم) آوردہ و صحیح ہمان است کہ بالاند کور شد و قول
 قوسی ہم ہمان و باز فرماید کہ بعضی ہجکم۔ بہای فارسی و تازی قرشت خواندہ اند و این تصحیف ہشکم
 است و بای فارسی خطاست (انہی کلامہ) و ہشکم بہای فارسی بالکسر و بالفتح و شین معجمہ معنی
 مطلق ایوان و بارگاہ آمدہ (کذا فی البرہان) مولف عرض کند کہ اصل این ہشکم است کہ
 از ہشک و ہم تخصیص ہشک بقول برہان بالفتح معنی شبنم است و بہ بای فارسی ہم بہ ہمین معنی
 آمدہ (الخ) و ہم تخصیص ہجوں ہجیم و چارم پس معنی لفظی این مخصوص بہ شبنم و گناہ از شبنم خانہ
 و سر تا بہ تابستانی و ہجکم تبدیل آن کہ شین معجمہ بہ جمیم عربی بدل شود چنانکہ کاش و کلج و ہجکم
 بہ جمیم فارسی) ہم بہ لاش کہ شین معجمہ بہ جمیم فارسی بدل شود چنانکہ کاشی و کاجی و اگر سند استعمال
 پیش شود (ہجکم بہ فوقانی روم) ہم تبدیل ہشکم کہ شین معجمہ بہ فوقانی ہم تبدیل یابد چنانکہ شش

ورخت و (بچکم بہ بای فارسی و جیم فارسی) مبتدل بچکم باشد کہ موحده را بہ بای فارسی بدل کنند
چنانکہ اسب اسپ و تب و تب و بلحاظ ماخذ فتح اول صحیح باشد کہ سرہ (فتائل) (ارو و) سرہ
بقول آصفیہ - فارسی - اسم مذکر - و بکھو باختہ کے چوتھے معنی -

بجگر شیشہ شکستن | مصدر اصطلاحی - ساختن است و این کنایہ باشد (ظہوری ۵) ہم
مراد (شیشہ درجہ شکستن) است کہ می آید کہ برو کہ تحفہ مرہم نمی شود و ساقی شکستہ امم بجگر شیشہ
بقول صاحب بحر (۱) مجروح کردن جگر و (۲) بلقرا (ارو و) جگر کو زخمی کرنا (۲) بے قرار کرنا -

بجکلہ | بقول انندجوالہ فرنگ فرنگ بفتح اول و ثالث و راج لغت فارسی است بمعنی خم یا
کہ در اس شراب نہند و فرماید کہ با جیم فارسی ہم آمدہ مؤلفت عرض کند کہ اگر نہ استعمال پیش شود
اسم جامد فارسی زبان گفتن آسان است اما وضع لغت متقاضی نسبت کہ این را مرکب و نیم
از لفظ نج و گل و ہای نسبت - نج بالفتح بمعنی پالایش آب و تراوش آن بجایش گذشتت و
گل بالضم بمعنی مطلق سرخ می آید و این مجاز باشد - پس معنی لفظی این فسوب بہ پالایش آب
و کنایہ از خم یا صراحی شراب باشد دیگر بیچ اندرین صورت باید کہ بضم کاف فارسی خوانیم (ارو و)
خم بقول آصفیہ - فارسی اسم مذکر - شراب کا مسکا - مذکر - شراب کی صراحی - مؤنث - صراحی کی تعریف
بآبوتہ پر گزری رہے -

بجکل | بقول برہان بضم اول و ثانی بر وزن دہل استخوان شتالنگ است و آن در میان بندگا
ساق پای می باشد و بتازی کعب خوانند صاحب رشیدی بجکل و بجول و بژول و بژول ہر چہ
بضم تین مراد یکدیگر گفتہ فرماید کہ استخوان کعب کہ بدان بازی کنند صاحبان ناصری و ہفت و

ہم ذکر میں کردہ اند صاحب جامع ہمزبان رشیدی خان آرزو در سراج فرماید کہ مخفف بجول و اصل اس بزول کہ زابجیم بدل شد یعنی با صاحب رشیدی متفق مؤلفت عرض کند کہ بزول موحده وزای ہوز نیامدہ و بجول بہ بای فارسی و جیم عربی بہ همین معنی آمدہ و اصل لغت فارسی بزول است بہ بای فارسی وزای فارسی صاحب کتہ ہم کہ مخفف ترکی زبان است اس رالخت فارسی گفتہ پس بزول بہ موحده وزای فارسی بستلش کہ بای فارسی موحده بدل شد چنانکہ تپ و تب و بجول بہ موحده و جیم عربی بستل بزول کہ زای فارسی جیم عربی بدل شد چنانکہ کترک و کجک و بزول مخفف بزول کہ واو حذف شد چنانکہ خاموش و خامش و همچنین بجول مخفف بجول۔ این است حقیقت، اخذ این اسم جامد فارسی زبان گوئیم محققین نازک خیال در تعریف این صراحت کافی نہ کردہ اند، یعنی حقیقی کتب است (۲۱) بسبیل مجاز استخوانی چہار گوشہ و دراز کہ بدال بازی کنند و عربی قرعہ نامند (ارو) دامنہ کی ہڈی مؤنث صاحب اصفیہ نے کتب پر فرمایا کہ عربی اسم مذکر استخوان (۲۲) وہ جو پہل ہڈی جسے زوبازی میں بھیکتے ہیں اور ہار جیت کرتے ہیں۔ پاسہ۔ آپہی نے پاسا اور پاسا پر فرمایا ہندی اسم مذکر۔ قرعہ کعب۔ لیکن بقول صاحب ساطع یہ دونوں لغات سنسکرت کے ہیں۔

جلا آمدن | مصدر اصطلاحی۔ جلا گرفتن و روشن شدن (صائب ۵) روی چوں آینه نہ بہاں کن از سجا
آخر جلا خواہم زد و راستی کو چہ و بازار سلامت باشد کہ موی
عرض کند کہ جلا بقول منتخب لغت عرب است لفتح و بالمد و زکا
بیرون کردن چیزی روشن و آشکارا صاحب انند سحوالہ
مستہی الارب معنی اول را لازم ہم گیر و پس بجلا زدن
مصدر اصطلاحی۔ بقول بہار
مستہی الارب معنی اول را لازم ہم گیر و پس بجلا زدن
میرزا جلال اسیر اسم معنی جلا وطن شدن پیدا است
میرزا جلال اسیر (۵) زابرا دست تو

(۵۰۶۹)

پس معنی اول را مشتاق سند و گیر باشم و شکست	بجلا آهوان در جلوه می آیند اگر چشم تو صتیادانه
که در جلادون (معنی بر آمدن می آید و لیکن بجلا	در فکر شکار افتد از محسن تاثیر با (هر جا حدیث
زون) را برای معنی اول سند و گیر باید (ارو و)	طره جانانه می رود و سوج هوا بجلا پر سخانه می رود
(ا) باهر آنا - بی پرده هونا (۲) جلا وطن هونا - جلا	(اوله با) سحر بدین آینه یا و گلشن کرد و
وطن کرنا -	صبا بجلا پری رفت و از چین بر فاست بوم کلفت
الف) بجلا چیزی	عرض کند که از قبیل (لباس کسی رفتن) است و مقصودش
ب) بجلا چیزی رفتن	همان باشد که بالا مذکور شد (ارو و) الف)
چیزی باشد و (ب) بقول وارسته و سحر و مانند شکل	کسی که لباس بی (ب) کسی که لباس بی جانان
او تشکل شدن (سا لک یزوی الف) پریزادان	کسی کی شکل اختیار کرنا -

بجهم بقول برهان بضم اول و سکون ثانی و میم که مازک است که میوه درخت گز باشد و بعربی ثمر الطرف
 خوانند و کبیر اول هم آمده صاحبان تا صری و جامع هم ذکر این کرده اند - صاحب انند این را لغت فانی
 گفته صاحب محیط بر بجم گوید که بفتحین بدیار مصر اسم گز مازج است و گویند عصی الراعی و برکز مازج
 فرماید که کز مازق و کز مازک و کز مازو ثمر اثل و طرفار گویند و بر طرفای فرماید که بفتح طاء و سکون را
 و فتح فا و الف اسم عربی است - بیونانی از یقاید سنا و اقل و طس و برومی موریتقا و بسریانی عرا
 و بفارسی گز و بهندی جهاد گویند - دو نوع می باشد بزرگ آن را اقل نامند و بستانی است
 و ثمر آن بدور و عذبه نام دارد و بهندی (چھوٹی مائیں) و کوچک آن صحرائی و مخصوص باسم طرفا
 و ثمر آن مشت و بعربی جوز الطرفا و ثمره الطرفا و کز مازج و بفارسی کز مازو و بهندی (ڑی مائیں)

گویند و درخت آن مثل آئل است الا کو چکر سر و خشک در اول و گویند خشک در دوم و شیخ سر و خشک در دوم گفته و در آن جلا و تحلیل و قبض و تقطیع و تخفیف است و منافع بیشتر و در اول (لغت) عرض کند کہ این لغت دیار مصر است عربی باشد (ارو) مائین۔ بقول آصفیہ۔ ہندی۔ اسم عربی ایک درخت کے پھل کا نام جو بازو سے مشابہ ہے۔ مائین کی دو قسم ہیں (۱) بڑی مائین (۲) دوسری چھوٹی مائین۔

بجنگ بودن نگاہ مصدر اصطلاحی۔ بقول نگاہ باشد۔ مشتاق سند استمال باشم (ارو) بحر تیز دیدن۔ دیگر کسی از محققین فارسی زبان ذکر این نکر و معاصرین عجم بزبان ندارند۔ ولیکن خلاف قیاس نیست کہ تیز دیدن بسوی کسی جنگ فرمایا ہے تیز نگاہ سے دیکھنا۔ جنگ کی نظر سے دیکھنا

بجٹو صاحب ہفت بحوالہ قنہ گوید کہ بضم اول و سکون جیم و ضم و نون یو اور سیدہ و وال ہلہ زوہ (۱) یعنی تدر و پرندہ آید۔ صاحب شمس ہمین لغت را بمعنی (۲) تندر و غرندہ گوید و صراحت کند کہ لغت فارسی زبان است مولف عرض کند کہ دیگر کسی از محققین فارسی زبان ذکر این نکر و معاصرین عجم ہم بزبان ندارند و بختور بہ ہو تدرہ اول و خامی مجہ و تختانی سوم و رای ہلہ در آخر بمعنی رعد و شیر غرندہ و بختوہ بہ ہای ہوز آخر ہم بہ ہمین معنی می آید و تحقیقش ہمہ را بنجا کنیم در ہذا قیاس ہمین قدر می خواهد کہ صاحب ہفت نظر بر التباس لفظی بختور را بجٹو نوشت و صاحب شمس پیروی او کرد مگر در معنی تصرفی زائد نکر و چنانکہ کاتب ہفت تندر و غرندہ را در تدر و پرندہ نوشت حیث است کہ محققین از احتیاط کار نمی گیرند۔ اگر معنی بیان کردہ

صاحب ہفت راستی پیش شود تو انیم عرض کرد کہ اسم جامد فارسی زبان است و معنی دوم
 ہم این لغت را بدون سند تسلیم نہ کنیم کہ پایہ صاحب شمس کتر است از ہمہ محققین (ارو و)
 دارا تذر و ایک جنگلی مرغ کا نام ہے۔ مذکر (۲) رعد۔ بقول آصفیہ۔ عربی۔ اسم مذکر۔ بجلی کی کوک
 گرج۔ گر گر اہٹ۔

بجو بقول مؤید بالفتح و ضم دوم خرمن باشد و صراحت کند کہ لغت فارسی است و دیگر کسی
 محققین فارسی زبان ذکر ایس نہ کرد و معاصرین عجم بر زبان ندارد اگر سند استعمال پیش شود تو انیم
 عرض کرد کہ اسم جامد باشد معنی مباد کہ بتوہ بہ فوقانی دوم عوض موحده وہای ہوتو در آخر
 بہ این معنی گذشت (ارو و) و یکھو بتوہ۔

بجو ارتق پیوستن (مصدر اصطلاحی) تا یکی ریش گاو باشد کس بز چند چوں ابلہان دوم
 بقول انند بجوالہ فرہنگ فرنگ کنایہ از مرد
 است مؤلف عرض کند کہ معاصرین عجم بزبان
 دارند و موافق قیاس است (ارو و) جو ارتق میں
 جگہ پانا۔ مرنا۔ و کن میں مستعمل ہے۔

بجوال رفتن (مصدر اصطلاحی) بقول انند
 کنایہ از دغا و فریب خوردن (ظہوری ۵)
 رفت۔ دغا و فریب خورد۔ از ہمیں رسم این مصدر
 اصطلاحی قائم شد (ارو و) و صو کا کھانا۔
 فریب میں آنا۔

بجو ج بقول دارستہ و بہا بہر دو جیم تازی بروزن بجوج نام شخصی از مشاہیر قریساگان
 در ناظم تبریزی ۵) در ہند اگر کسا و شو و جنس کون کشی بزرد ہرہ بجوج و ملک عراق نہ بز

مولفٹ عرض کند کہ لغت زند و پازندی نماید کہ فارسیان قدیم بچوجیا مادہ حیوان و فرج زنان را گویند و جاوارو کہ این اسم از زمین لغت وضع شدہ (اروو) بچوج قمر ساقون کے ایک نامی شخص کا نام تھا۔ مذکر۔

• **بچوجیا** بقول برہان و ناصری و درجہ نگیری و ضمیمہ) باجمیم بروزن فلونیا بلغت ژند و پاژندرا، مادہ ہر حیوانی و درج (۲) فرج زنان را گویند و در فرسنگ فدائی نوشتہ کہ ہر کہ نشان مادگی داشتہ باشد بتازی نوشت مولفٹ عرض کند کہ یکی از معاصمین زروشان گوید کہ بچوج بلغت قدیم فرج زنان را می گفتند اہتی کلام چہفت است کہ کتب لغات میں لغت را ترک کردہ اند۔ پس معلوم می شود کہ در فارسی قدیم کلمہ یاد را آخر کلمہ افادہ بمعنی فاعلی و اتصاف و نسبت می کرد چنانکہ در سنسکرت صاحب ساطع کہ محقق لغات سنسکرت است ذکرش کردہ چنانکہ کپڑا یا بڑا را گویند پس معنی لفظی این فرج دارندہ و در محاورہ مخصوص بہ مادہ حیوان و معنی دوم بر بیل مجاز از بی خبری مانند محاورہ شد و اللہ اعلم (اروو) مادہ حیوان - مذکر (۲) فرج نوشت۔ دیکھو اوک۔

• **بچور** بقول برہان و ناصری و جامع بکسر اول بروزن کشور نام ولایتی است ماہین کابل و ہندوستان صاحب ہفت این قدر اضافہ کند کہ این ولایت نزدیک سواد تیراہ است و بکسر اول و سکون جیم و فتح داوورای مہملہ زوہ آمدہ مولفٹ عرض کند کہ از جغرافیہ زمانہ حال ماہیچ نشان این ولایت بدست نمی آید الا بچور بزیادست نون بعد جیم مقامی است در شمال مشرق دہلی (اروو) بچور ایک ولایت کا نام تھا جو کابل اور ہندوستان کے درمیان واقع تھا جغرافیہ حال سے اس کا پتا نہیں چلتا البتہ بچور ایک مقام ہے جو دہلی کے شمال مشرق میں واقع ہے۔

<p>(ظہوری ۵) گفتم کہ بجوش آمدہ ام از ہمہ برتر</p>	<p>بجوش آمدن (مصدر اصطلاحی ادب) بمعنی زیادت</p>
<p>پختت ولم خامتر از من ہوسی چند و برای</p>	<p>گرم شدن بالغات و جوش زدن چنانکہ بجوش</p>
<p>غیر ذی روح ہم بر سبیل مجاز چنانکہ بجوش آمدن</p>	<p>آمدن آب و شیرینی خون و دیگر امثال آن</p>
<p>لب (ظہوری ۵) لب از تلخی شہد آمد بجوش</p>	<p>از گرمی آتش یا حرارت و تمازت سندان از مصراع</p>
<p>بشترینی زہر خو کرده ایم (ار دو) جوش میں آنا</p>	<p>اول صائب بمعنی دوم می آید۔ (ار دو) جوش</p>
<p>بقول آصفیہ۔ غصہ میں آنا۔ جذبہ میں آنا۔</p>	<p>میں آنا۔ بقول آصفیہ۔ کھد بانا۔ بلبے اٹھنا۔ ابلنا۔</p>
<p>مست ہونا کے معنوں میں مشتمل ہو سکتا ہے۔</p>	<p>(۲) بالیدن و شگفتہ شدن چیز می و سوز پیدا کر دینا</p>
<p>اس لئے کہ آپ ہی نے لفظ جوش پرستی کر خنے لکھے</p>	<p>چوں اصناف این بسوی غیر بالغات کنند چنانکہ بجوش</p>
<p>(۵) مست و بخود شدن چنانکہ بجوش آمدن کسی</p>	<p>آمدن خاک این مجاز معنی اول است (صائب ۵) خون</p>
<p>و مجاز ابرای چیزی ہم (صائب ۵) اگر چه دیر</p>	<p>از روی آتشک می آید بجوش از دم گرم بہاراں خاک آبی</p>
<p>بجوش آدمم باین شادوم ہا کہ ہر صیہ دیر شود گرم دیر</p>	<p>بجوش (ار دو) بالیدہ ہونا۔ شگفتہ ہونا۔</p>
<p>گرد و سر ہا (ظہوری ۵) بہار است از ہوا می سرور</p>	<p>(۳) و ذوق یافتن و ولولہ پیدا شدن چنانکہ</p>
<p>در خروش آمد ہا دو بیتی خواند در نوروز بلبل گل بجوش آمد</p>	<p>و بجوش آمدن دل (صائب ۵) زہر نو اول</p>
<p>(ولہ ۵) بجوش آمد و مرگم ز شوق مرگ حلال ہا</p>	<p>عشاق کی بجوش آید ہا ز عند سب مگر نالہ گہوش آید</p>
<p>ستادہ و شنہ بکف عشق گرم قضا بیت (ار دو)</p>	<p>دار دو) جوش میں آنا۔ بقول آصفیہ۔ ولولہ اٹھنا</p>
<p>جوش میں آنا۔ بقول آصفیہ۔ جذبہ میں آنا۔ واضح</p>	<p>ذوق پانا۔ ولولہ پیدا ہونا۔ متاثر ہونا کہہ سکتے ہیں</p>
<p>ہو کہ اس کے معنی (مست ہونا) بھی ہو سکتے ہیں۔</p>	<p>(۴) بخشم آمدن و جذبہ آمدن چنانکہ بجوش آمدن کسی</p>

(۲۲۵)

(۲۲۵)

(۲۲۵)

(۲۲۵)

(۲۲۵)

اس لئے کہ صاحب آصفیہ نے لفظ جوش پرستی کے
 معنی بھی لکھے ہیں۔

بتلای جوش ہونا۔

بجوش آوردن | مصدر اصطلاحی - مستدی

مصدر گدیشہ و شامی ہر پنج معانی (ظہوری ۱۵)

بجوش آورم باز دیگر ہوس را از پس از پختگی ہا و گر

خام گرم ہا (صائب ۵۵) چنان ز سر وی عالم

فسردہ دل شدہ ام ہا کہ روی گرم نمی آورد بجوش مراد

(ارو) (۱) جوش میں لانا۔ جیسے دیگر یا پانی کو جوش

میں لاو (۲) بالیدہ کرنا۔ شکنہ کرنا (۳) ذوق دلانا

و لولہ پیدا کرنا (۴) جوش میں لانا۔ بقول آصفیہ۔

برانگیختہ کرنا۔ طیش میں لانا۔ غصہ دلانا۔ بھڑکانا۔

(۵) مست کرنا۔

بجوش افتادن | مصدر اصطلاحی، بمعنی بجوش

آمدن است و بتلای جوش شدن در کاری یعنی

غلو کردن (ظہوری ۵۵) ولم بجوش ہو سہا می خام

می افتد ہا نشانہ دانہ کہ عشقا پدام می افتد ہا

(ولہ ۵) کسی کہ در ہوس لعل باوہ نوش افتد ہا

ز تاب مستی تھرست چو من بجوش افتد ہا (ارو)

بجول | بقول بہمان بضم اول بروزن ہول

استخوان شتالنگ۔ صاحبان رشیدی و جامع ہم

ذکر این کردہ اند و ما حقیقت ماخذ و صراحت معانی

این بر بیکل کردہ ایم (ارو) و یکھو بیکل۔

الف) بجولان آمدن | مصدر اصطلاحی

ب) بجولان آوردن | بقول منتخب

بفتحتین لغت عرب است بمعنی گردیدن و گردن

در کارزار فارسیان بسکون واد استعمال کردند

بمعنی حاصل بالمصدر و دیدن و مخصوص است

برای اسپ پس الف) دیدن اسپ باشد

ب) مستدی آن یعنی دو امیدش و مجازاً برای

غیر اسپ ہم مستعمل و بحث کامل جولان بجای خود

کنیم۔ (انوری الف ۵) زادہ خورشید در تابست

از رخسار تو ہا تا چہ از لغت بہان گلگون بجولان

آمدہ است ہا (صائب ۵) و لفریبی چون بجولان

(۲۳۵۶)

(۲۳۵۶)

(۲۳۵۶) (۲۳۵۶)

آورد آن ماہ را در مودی باید نگہدار و عنان آہ را بچا (اردو) (الف) دو طرف نارپ) دو طرفانا۔

بجہ | بقول سروری و سراج بوزن پیشہ نام مدینہ است میان فارس و اصفہان و صاحب برہان گوید کہ نام جائی و مقامی صاحب رشیدی بالتفاق سروری صراحت مزید کند کہ بفتح با و جیم تازی مشد و باشد و صاحب جامع مستفق با برہان صاحب انندیس رالغت فارسی گفتہ مؤلف غفلت کند کہ بز با لفتح زمین و پیشہ بلند را گویند (کذا فی البرہان) پس بخمال ما بز اصل است بمعنی بالا و بیج بستلش کہ زای ہتوز بہ جیم بدل شد چنانکہ چوڑہ و چوڑہ فارسیان ہامی نسبت در آخرش آوردہ نام مدینہ نہادند کہ بر پیشہ بلند واقع باشد و معنی لفظی این منسوب بہ پیشہ بلند (اردو) بجہ ایک شہر کا نام ہے جو فارس اور اصفہان کے درمیان واقع ہے مذکر۔

بجبت | بقول انندسجوالہ فرسنگ فرنگ بالفتح و نماید کہ در جیون کبشتی سوار شد و قیل کنایہ از معنی بسبب و بعثت مؤلف عرض کند کہ گریہ بسیار مؤلف عرض کند کہ معنی اول خلا موحدہ اول زائد است و یعنی از مستعمل (اردو) قیاس است و مخالف معنی لفظی۔ معاصرین عجمی بر زبان ندارند۔ طالب سند استعمال با شیم۔ مجرد سبب سے وجہ سے۔

بجیون نشستن | مصدر اصطلاحی۔ بقول ضمیر کہ برہان و بگردا، کنایہ از جیون گذشتن (۲) کنایہ کبشتی جیون نشستن و در ۳ اگر بہ بسیار کردن صاحب مؤید ذکر ماضی مطلق این سجو الہ قنیہ کردہ گوید کہ ای جیون را عبور کرد و سجو الہ اوات

قول محققین بالا کافی نیست و معنی دوم موافق قیاس باشد۔ مقصود معنی سوم ہمین قدر است کہ از کثرت گریہ دریای اشک رواں می شود گوید باکی در جیون می نشیند مبالغہ شاعری است دیگر گریہ مخفی مباد کہ در اینجا جیون بر سبیل مجاز معنی عام

گیریم نہ رود خاص و حق آنست کہ این مصدر (اردو) (اندی پارہواد) کشتی میں بیٹھنا (۳) بہت
اصطلاحی مادہ بدینا نشستن) قائم کنیم کہ بجای خود نشیندگوشی
رونا آنکھوں سے دریا بہانا۔

موحدہ باہم فارسی

بج | بقول جہانگیری و جامع (۱) اندرون لبوس و آئرا اکتب و کتب نیز گویند رپور بہای جہی
(۲) تاسیلت زیم پر او باو کن بچت ز کز بہ تپا پنچہ باز خوری تو ز ما بہ پاک (۲) سوی پیش سہر
صاحب برہان صراحت کند کہ ہضم اول و سکون ثانی است۔ صاحب رشیدی فرماید کہ در سروری
بفتح جیم عربی است و این درست تر است چہ قافیہ شعر بفتح جیم تازی است نیز فرماید کہ صاحب
فرہنگ جہانگیری این بیت را از قطعہ پنہا شتہ کہ قافیہ اش بر ضم و جیم فارسی است و قافیہ شعر
پور بجای رکات تازیست نہ بر جیم چنانکہ صاحب فرہنگ گمان برودہ خان آرزو در سراج نسبت
معنی اول بذکر قول برہان گوید کہ بدین معنی جیم تازی گذشت و نسبت معنی دوم فرماید کہ بالفتح
باشد و بفارسی لبوس ہم مؤلف عرض کند کہ جزیں نیست کہ بمعنی اول مبتدل و ج بمعنی اول
کہ بجیم عربی گذشت و صراحت ماخذ ہمدرا بخا کردہ ایم۔ جیم عربی بفارسی بدل شد چنانکہ کاج
و کاج و بمعنی دوم ہم مبتدل معنی دوم صحیح است و اختلاف در معنی این نتیجہ محاورہ باشد کہ پیش
سوی پیش سر کرد بر سبیل مجاز و حرکت اول این بلحاظ ماخذ کہ ذکرش بدین جیم عربی) کردہ ایم
فتح باشد۔ صاحب رشیدی بخشی کہ بر قافیہ شعری کند پی حاصل محض (اردو) (۱) و کیونج کے
پہلے معنی (۲) کا کل بقول آصفیہ۔ فارسی۔ اسم مؤنث۔ سر کے بڑے بڑے آگے لٹکے ہوئے بلدا
بال۔ زلف۔ گیسو۔ لٹ۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ یہ تعریف درست نہیں ہے فارسیوں نے کا کل

کو غیر زلف کہا ہے کاکل وہ بال ہیں جو پیشانی سے اوپر ہوتے ہیں اور زلف سے بلند رہاں قلی خان

(۵) زلف از کاکل پریشان خاطر است و از دست چوں خودی بودن بلاست و۔

بہ سچاق بقول وارستہ بحوالہ نصاب ترکی بہ بای فارسی و جیم فارسی مشق و لغت ترکی است

بستی کار و رفتی بزدی (۵) شب فراق خروس سحر نفس نکشید با خوش آں زمان کہ سترش را بہ بزم

از بہ سچاق صاحب غیث بہ موقدہ آورده گوید کہ بعضی بزمن نوشتہ اند و فرماید کہ در مصطلحات بہ

تشدید جیم فارسی آمدہ۔ مؤلف عرض کند کہ صاحب کنتز این را بہ موقدہ و تخفیف آخر۔

لغت ترکی گفتہ و صاحب لغات ترکی ہم کبسر موقدہ آورده۔ جزئیں نیست کہ فارسیان بہ تشدید

جیم فارسی استعمال لغت ترکی کردہ اند۔ مفرس باشد و پس۔ اگر عوض موقدہ بای فارسی متحقق شود

چنانکہ وارستہ ذکرش کردہ تو انیم عرض کرد کہ مبدلش باشد کہ موقدہ بہ بای فارسی بدل شود و سچاق

تب و تب۔ کلام فوقی بزدی برای تصنیف حرمت اول کافی نیست۔ مشتاق سند دیگر با شیم۔

(ارو) چھری بقول اصفیہ۔ ہندی۔ اسم مؤنث۔ کٹرک۔ لبیا چاقو جو بند نہ ہو سکے۔ چھوٹا چھرا

سچاہ آوردن | مصدر اصطلاحی۔ بقول انند | خلاف قیاس نیست کہ از قبیل بزریر آوردن باشد کہ

بحوالہ فرہنگ سکندر نامہ بذلت رسانیدن است | می آید (ارو) نیچا دکھانا۔ بقول اصفیہ بزرک دینا

دیگر محققین ازین ساکت و سند استعمال پیش نہ شدہ | خفیف کرنا۔ ذلیل کرنا۔

بیچ بیچ | بقول سروری بضم و کسر ہر و و با و جیم اول نیز فارسی (۱) سخنی باشد کہ پوشیدہ از مردم

گویند و در (۲) لفظیست کہ شبانان بزر را بدان خوانند شمس فخری (۵) در رستہ انصاف جمال الحق و والدین

ہرگز سخن ظلم نہ گویند بہ بیچ بیچ و آواز دہد گگ شبان ہچو شبانان و خوانند شبانان گلہ را جملہ بیچ بیچ و صاحب

بصراحت ہر دو جیم فارسی نسبت معنی اول فرماید کہ حرف زون باشد در نہایت آہستگی۔ دوسر گوشی
 را نیز گویند و لفظیست کہ شبانان بجزا بدال نوازش کنند و پیش خو و خوانند و آرتہ بذکر معنی اول
 از ظاہر نصیر آبادی سند آورده (۵) بفریاد و افعال بزم شراب (بہینچ بیچ آہستہ در رخت خواہی
 صاحب بجر ہم ذکر ہر دو معنی کردہ خان آرزو در سراج بر معنی دوم قانع و فرماید کہ بیچ مبتدل بز
 یا بر عکس اس مولف عرض کند کہ سرگوشی بہترین تعریف معنی اول است و این معنی اول
 اسم جامد فارسی زبان باشد و بمعنی دوم مبتدل بز بہر چنانکہ خان آرزو اشارہ اس کردہ (اردو)
 (۱) سرگوشی بقول اصفیہ۔ فارسی۔ اسم مؤنث۔ کہس پوسہ۔ کانابھوسی۔ کاناباتی۔ آپ ہی نے
 ٹکس ٹھیس۔ بھی انہیں معنوں میں لکھا ہے۔ اسم مؤنث (۲) ایک خاص قسم کی آواز جس سے
 چرواہے اپنے بکروں کو بلاتے ہیں یہ ہر ملک میں جدا جدا ہے۔ دکن میں اوہ۔ اوہ)

<p>بچراغ رسیدن مصدر اصطلاحی۔ بقول</p>	<p>استناد کردہ (۵) روزی از آنجا کہ فراخی رسیدن</p>
<p>جہانگیری و ضمیرہ (۱) کتابہ از رسیدن بخدمت</p>	<p>باد سلیمان بچراغی رسیدن و صاحب رشیدی</p>
<p>بزرگی و (۲) رسیدن بدولتی صاحبان بر بان و</p>	<p>ہمزباننش و صاحب شمس ذکر این و ماضی مطلق</p>
<p>بفرماید کہ رسیدن بدولتی یا خدمت دولت</p>	<p>این بہر دو معنی کردہ مولف عرض کند کہ صاحبان</p>
<p>صاحب مؤید نسبت معنی اول رسیدن بدانش</p>	<p>جامع و ناصر ہی کہ از اہل زبانند ازین ساکت خلا</p>
<p>گوید خان آرزو در سراج بر معنی اول قانع صاحب</p>	<p>قیاس نیست بلحاظ فروغ چراغ یعنی بہ روشنی</p>
<p>سروری در ملحقات خود ہمین مصدر را بہ تحتانی ششم</p>	<p>اصل شدن کنایہ باشد از حضوری بخدمت و</p>
<p>بہین دو معنی آورده و برای معنی اول از کلام نظا</p>	<p>یا بزرگی حصول دولت ہم۔ سند نظامی بکار این نمی</p>

کہ متعلق بہ رسیدن باو پچراغ، است۔ طالب شدہ
 و گریہ باشیم۔ معاصرین عجم بزرگان ندارند (ارو) لا
 دولت مند۔ تو نگریہ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونا
 دولت مند ہونا۔

پچراغ گذشتن | مصدر اصطلاحی۔ بقول بحر

و موید و ہفت رسیدن بخدمت کاملی و عارفی موی
 عرض کند کہ گذشتن بمعنی رفتن آمدہ در کثافی الموائی
 و چراغ در اینجا بطرف و غش استمارہ باشد از عارف کامل
 بوجہ روشن دلش و معنی این مصدر را بسبیل کنایہ
 گیریم۔ طالب سند استمال باشیم کہ محققین اہل زبان
 و معاصرین عجم ازین ساکت (ارو) کسی عارف
 کامل کی خدمت میں حاضر ہونا۔

بچرک | بقول سروری بحوالہ شرف نامہ بحیم فارسی

بوزن مرفق۔ سخرہ۔ و فریب خوردہ و بحوالہ ادوات
 الفضلا بکسر باو بحیم و سکون ساہم آمدہ صاحبان بران
 و با مع و موید ہم ذکر این کردہ اند خان آرزو در سراج
 گوید کہ تحقیق است کہ بحیم و فتح بحیم و کاف فارسی است

موی آید و صاحب برمان معنی بکار نوشتہ بحیم فارسی ہم
 آورہ حجت است کہ خان آرزو حجت صحت بچرک
 پیش نہ کرد و ما عرض کنیم کہ (بزرگ) بہ ضم موعده و سکون

زای ہوز و فتح رای اہملہ و سکون کاف فارسی اصل

است معنی لفظی این رگ بزرگ دارندہ و کنایہ از فریب خوردہ
 و سخرہ و بچار۔ زای ہوز بدل شدہ بحیم فارسی چنانکہ
 پزیشک و بچشک و کاف فارسی بدل شدہ کاف
 عربی چنانکہ گند و گند۔ اختلاف اعراب نتیجہ بے خبری
 از ماخذ باشد کہ در محاورہ و استعمال واقع شدہ و پنجم
 و بچرک بہ بحیم اول و بحیم عربی و فارسی می آید آں ہم
 بدل بزرگ است کہ موعده بہ بحیم ہم بدل شدہ چنانکہ

عزوب و عزوم و زای ہوز بہ بحیم عربی و فارسی چنانکہ

ہوز و سوج و پزیشک و بچشک پس صحت بچرک
 و غیر صحت بچرک کجا باقی ماند چنانکہ خیال خان آرزو
 بلکہ خلاف خیالش تحقیق ما کہ بینی بر قیاس صحیح است
 بچرک اصل است و بچرک بدلش و چون اہل زبان

<p>یعنی مساحبان سردری و جامع بچرک را بہین یعنی فارسی تسلیم کردہ اندخان آرزو را نمیرسد کہ باہند نشرادی حکم صحیح وغیر صحیح بدون حجت و برہان دہ چنانکہ عادت اوست (اردو) فریب کھایا ہوا۔ احمق۔ بچرم خام کشیدن مصدر اصطلاحی۔ بقول آند تغذیب کردن و آن نوعی از سیاست می باشد کہ گوشت</p>	<p>عرض کند کہ مقصود محقق ہند نژاد جزین نباشد کہ بچرم را در پوست بزیگا و وغیر ذلک تنزیہاً بند کنند استعمال مصدر از نظر مانگہ شست و محققین اہل زبان و معاصرین ازین ساکت۔ بدون سند استعمال تسلیم توں کرد (اردو) جانوروں کی کھال میں بند کرنا۔ یہ تغذیر کی ایک قسم ہے جو مجرم کو کھال میں داخل کرتے ہیں۔</p>
<p>بچر۔ بقول شمس بالفتح لغت فارسی است بمعنی کینہہ مکرگفت عرض کند کہ دیگر کسی از محققین فارسی ذکر این نکرد و معاصرین بچرم بزبان ندارد بخیمال ہمارای اہلہ در آخر باشد عوض زای ہوزا اندر صورت ماخذ بچرگ دانیم کہ بکاف گذشت و جادارد کہ این را مختلف بچرگ گیریم والاخر اولی من الاول۔ باقی بدون وجود سند استعمال مجرد قول صاحب شمس اعتبار انشاید (اردو) کینہہ بقول آصفیہ۔ فارسی۔ اوچھا۔ کم ظرف۔ دون اہمت۔ سفلہ۔ فرومایہ۔ آپ ہی نے کچر پر فرمایا ہے (اردو) انٹری۔ بیوقوف</p>	<p>بچش بقول جہانگیری در شدی و برہان با اول شمانی مفتوح (۱) از سہ بی و (۲) سستی و (۳) برج و مشتت مکرگفت عرض کند کہ جزین نیست کہ این را بہتدل بچس دانیم کہ بچیم عربی و سین مہملہ بہر و معنی اول الذکر گذشت۔ چنانکہ کاج و کاج و کستی و کستی صیرحت ماخذ ہمدرا بخا کردہ ایم و معنی سوم ہم مجاز و لیکن بچش</p>
<p>از ماخذ یافتہ نمی شود چارہ نیست جزین کہ این را بہین اسم جامد گیریم طالب سند استعمال با شیم کہ محققین اہل زبان و معاصرین بچرم ازین ساکت (اردو) (۱) و بچس کے پہلے معنی (۲) سستی۔ بقول آصفیہ۔ فارسی۔ اسم کاہلی۔ الکسی۔ چینی کا نقیص (۳) مشتت بقول آصفیہ۔ عربی۔ اسم مرثث۔ محنت۔ تکلیف۔ و کہ۔</p>	<p>بچش بقول جہانگیری در شدی و برہان با اول شمانی مفتوح (۱) از سہ بی و (۲) سستی و (۳) برج و مشتت مکرگفت عرض کند کہ جزین نیست کہ این را بہتدل بچس دانیم کہ بچیم عربی و سین مہملہ بہر و معنی اول الذکر گذشت۔ چنانکہ کاج و کاج و کستی و کستی صیرحت ماخذ ہمدرا بخا کردہ ایم و معنی سوم ہم مجاز و لیکن بچش</p>

<p>بیشک بقول جهانگیری در شیدی با اول و ثانی مکتوردا (طیب را گویند و اس را پزیشک نیز خوانند (خاقانی ۵) هم رنگ زرشک شد شکر شکم و کبک شک مجرب بچشم پز صاحب برهان بذر معنی اول فریادیکه (۱۲) گیاه فروش را هم گویند صاحب جامع همزبانش حساب سوید گوید که بختتین و قیل کبیر دوم و ایضا بفتح اول در اوت بابای فارسی صحیح است بمعنی (۱۳) رگ زن و طیب کذافی الشرفنامه و بحواله اوت گوید که طیب و فریادیکه صحیح به بای عربی است که در لسان الشعرا هم که مرجع ادات انفضلاست در باب بای تازی آورده خان آرزو در سراج با برهان بہر دو معنی مشتق و گوید کہ پزیشک بتدل این مؤلف عرض کند کہ ما برد بچشک کہ بقدرہ و جیم عربی گذشت حقیقت این بیان کردیم کہ اسم جامد فارسی زبان پزیشک است بہ بای فارسی و برای ہتوز خان آرزو و غورنکر و با بکلہ مرادف است بمعنی اول (بچشک - بہ بای عربی و جیم عربی)</p>	<p>و معنی دوم مجازاً آن کہ گیاه فروشان ہموم طبابت میزنند و جہلاً را گیاه مخصوص برای علاج امراض می دہند کہ در دکن آنرا (کچے گاندی) نامند و معنی سوم ہم مجاز باشد کہ جراح در گ زن را بدین اسم موسوم کرد کہ سالچہ زخم می کند تا چون طیب بخندی بیاید کہ بخاط ما خدای کبیر اول و دوم صحیح است (۱۴) (۱۵) و کچو بچشک کے پہلے معنی (۱۶) کچے گاندی رگ زن اس سبزی فروش کو کہتے ہیں جو کسی قدر خواص نباتات سے واقف ہوتا ہے اور علاج الامراض میں خاص خاص پتوں کا استعمال کرتا ہے جو نیم حکیم کا مصداق ہے ممالک مغربی و شمالی او وہ ہیں ہوتی فروش کہتے ہیں (۱۷) رگ زن - بقول آصفیہ - فارسی - اسم مذکر فصلاً و فصد کھولنے والا - جراح -</p>
<p>بچشم صاحب انند بہ فتح اول فریادیکہ این کلمہ را در وقت قبول کردن امری بر زبان رانند تعظیماً لامرہ (خواجہ شیراز ۵) گفتیم کہیم و ہان کا مراد کنند پز گفتا بچشم ہر چہ تو گوئی ہماں کنند پز</p>	<p>بچشم صاحب انند بہ فتح اول فریادیکہ این کلمہ را در وقت قبول کردن امری بر زبان رانند تعظیماً لامرہ (خواجہ شیراز ۵) گفتیم کہیم و ہان کا مراد کنند پز گفتا بچشم ہر چہ تو گوئی ہماں کنند پز</p>

<p>موقع پر حاکم کی تعظیم کے لئے بسرو چشم کہتے ہیں</p>	<p>و نیز فرماید کہ ربط بین المصرین و رین بیت تاویلا و توجیہ می خواهد و اغلب کہ معنی نولہ کہم بر سبیل استفہام</p>
<p>برہان نہ چشم زخم را گویند یعنی آزاری کسی سیدنا و بقول بحر (۱۲) بزرگ نمودن در نظر کسی ہم صاحبان</p>	<p>انجاری باشد و سوال از زمان نباشد فمائل ہوو عرض کند کہ از کلام خواجہ شیراز مصدر (چشم کردن) پیدا است کہ بجای خودش می آید در پنجاہمین قدر</p>
<p>موتی و جامع بر معنی اول قانع و خان آرزو و درج بحوالہ برہان ذکر معنی اول و در چراغ ہدایت</p>	<p>کہ فی است کہ فارسیان استعمال این بدون موحده بیشتر می کنند بانہار التثانی امر یعنی زید گوید کہ</p>
<p>فلک سلیم بزرگ حیرتم کہ از چہ بود چشم من کہ بود مکولت عرض کند کہ معنی حقیقی این در نظر</p>	<p>زود رو و بیایا و مخاطب ہو اب می دہد کہ چشم یعنی بالراس و العین و بسرو چشم تعیل حکم می کنم</p>
<p>آمدن چنانکہ کہ مکتوب توالی الان چشم من نیاید یعنی ندیدم اورا و معنی اول و دوم بر سبیل کتاب</p>	<p>پس درینجا چشم، مختلف (چشم) است و (چشم) مختلف (بسرو چشم تعیل حکم می کنم) و معنی لفظی این</p>
<p>باشد (ارو) و کن میں کہتے ہیں آنکھوں میں پرانا یعنی نظر لگنا جیسے نا حق آنکھوں میں پر لگتا یعنی اس کو نظر لگ گئی (۲) آنکھوں میں آنا۔ بقول اسیر نظروں میں سمانا۔ (اسیر ۵) میری آنکھوں میں آؤ تم اگر شمشاد قامت ہو پڑ شجر ہتا ہے اکثر سبز دریا کی ترائی سے بزرگ کن میں کہتے ہیں</p>	<p>بالای چشم و با چشم و بسید چشم۔ مابعد ذوق زبان گوئیم کہ مجرد (چشم) داخل محاورہ باشد نہ (چشم) زارو) بسرو چشم۔ بقول آصفیہ۔ فارسی۔ سر آنکھوں سے۔ بطیب خاطر۔ خوشی سے ہو کر عرض کرتا ہے کہ بہت خوب۔ جو حکم۔ جی اچھا یہ حکم کے حکم کا جواب ہے جو محکوم دیتا ہے اور اسی</p>

<p>حقیقی ظاہر است کہ خریدار متاع را برای خریداری بتوجہ تمام می بیند (اروو) خریداری کی نگاہ سے دیکھنا کہہ سکتے ہیں۔ توجہ کامل سے دیکھنا۔</p>	<p>آنکھوں میں بھرنا۔ آنکھوں میں چھنا۔ امیر مینائی نے آنکھوں میں سمانا (پرفریا) ہے۔ نظروں میں بھلا معلوم ہونا۔ نہایت پسند آنا (برق ۵) تو نے بس سے بے پردہ دکھائی صورت تو پھر مری آنکھوں میں ہرگز نہ سما یا کوئی پردہ (۳) نظر آنا۔ وکنا۔ وکن میں کہتے ہیں آنکھوں سے گزنا</p>
<p>بچشم خود دیدن استعمال یعنی حقیقی است و بچشم خویش دیدن (مراد فاش۔ بحث میں باسند بر بچشم دیدن، می آید (اروو) دیکھو بچشم دیدن۔ بچشم خوردن (مصدر اصطلاحی) بقول و اثر</p>	<p>بچشم آوردن (مصدر اصطلاحی) بقول انند مراد بچشم کردن یعنی اعتناء بہ شان چیز یا کردن و برگزیدن (افضلی جریاد خانی ۵) غم تو در دل من همچو دزد خانگی است تو کہ ہر چہ روز بچشم آوردی شب دزد و دزد مولف عرض کند کہ سنی حقیقی این دیدن است و در نگاہ داشتن و برگزیدن حاصل اس (اروو) دیکھنا۔ دیکھ رکھنا۔ منتخب کرنا۔ بچشم خریداری دیدن (مصدر اصطلاحی) بقول</p>
<p>بمعنی چشم زخم رسانیدن (صائب ۵) ترسم از دور بچشمش سخن زنداہل نظر تو بسکہ چون خواب بہا لب او شیرین است تو صاحب بحر فرماید کہ بجد دیدن و چشم زخم رسانیدن۔ خان آرزو در چراغ گوید کہ بجد دیدن و چشم زخم رسانیدن و بافت عین الجمال خراب ساختن مولف) عرض کند کہ مراد (با چشم خوردن) است کہ بجای خویش گذشت و صراحت معنی ہمدرا بخا کردہ ایم ضرورت ندار کہ حد را در معنی داخل کنیم (اروو) دیکھو بچشم خوردن۔</p>	<p>بچشم آوردن مولف عرض کند کہ مراد کہ گذشت موافق قیاس ندار کہ حد را در معنی داخل کنیم (اروو) دیکھو بچشم خوردن۔</p>

بچشم و اشتن

(مصدر اصطلاحی) بقول وارث

عرض کنند کہ مراد منی دوم و سوم (بچشم آمدن)

و بحر دانند نظر بند کردن (حسن بیک رفیع ۵)

باشد حیث است کہ سند استعمال پیش نہ شد لیکن

چوں کسی از چرخ بگریزد کہ مردم را چشم ز آجوا بروی

غلاف قیاس نیست (ارو) و کجیو چشم آمدن کے

تباں پیوستہ می دارد نگاہ ز مولف عرض کنند کہ از سند

دوسرے اور تفسیر سے سنئے۔

پیش کردہ محققین بالا مصدر بچشم نگاہ داشتن)

بچشم دیدن | استعمال صاحب انند گوید کہ خبر

پیدا است ظالم بند گیر باشیم و گوئیم این مصدر

احتمال صدق و کذب ہر دو دار و اما وقتی کہ گفتہ شود

ہم بر زبان معاصرین عجم است بمعنی (نظر داشتن)

بچشم خود دیدہ ام یا گوش خود شنیدہ ام یا اصلا

و نگران بودن۔ صاحب بحر پر (نظر بند) فرماید کہ

کذب را در آن و غلی نباشد و بر نیقیاس بیایستادن

بمعنی مجوس است۔ پس نظر بند کردن بمعنی مجوس

و بیارفتن (میر خسرو ۵) رفتن جائزاً بچشم خود دیدن

و مقید کردن باشد اندرین صورت در معنی این است

تا بچکس ز من بچشم خویش می بینم کہ جانم می رود

(نظر بند) را داخل کردن خلاف مقصود است کہ

(سعدی ۵) بچشم خویش دیدم و بیابان ز کہ

نگرانی محض و رای قید و بند باشد (ارو) آنکھوں

آہستہ بہت برداشتایان ز مولف عرض کنند

رکنا بقول امیر نظر حفاظت سے رکنا۔ نگرانی کرنا

کہ از ہر دو سند بالا مصدر بچشم خود یا بچشم خویش دیدن

(ہلال ۵) رات دن آنکھوں ہی میں رکھتے ہیں

پیدا است کہ بجای خویش گذشت و بچشم دیدن ہم

عاشق ان کو ز پیک نظارہ نگہبان رہا کرتے ہیں

ہمان مقصد پیدا کند کہ مخفی آں است یعنی لفظ

بچشم در آمدن | (مصدر اصطلاحی) بقول بحر

خود و خویش درین مخدوف است و این ترجمہ

دفع و دفعار داشتن و اعتبار پیدا نمودن مولف

در ای الحین) است (ارو) اپنی آنکھ سے دیکھنا۔

بچشم روشنی کسی رفتن

مصدر اصطلاحی ^{آرزو} خان

در چنان عبادت گوید که برای مبارکباد کسی رفتن
 که چشم روشنی مبارکباد است (تاثيره) حرف
 از فروغ روی تو هر گاه می رود با خجلت چشم روشنی
 ماهی رود (مزار جلال اسیر) برق نگاه گرم
 تو آئینه را گدخت با آتش چشم روشنی خار می رویت
 (بو طالب کلیم) چشم روشنی داغهای کهنه رویت
 تبشش نیک تازه در شکال کرد با صاحبان جگر
 اند هم ذکر این کرده اند مولف عرض کند که اصل
 این (روشنی چشم) و نور نظر و قلب اضافتش چشم
 روشنی) و این مرکب وضع شد برای مژده میلاد
 که مولود را نور دیده پدر گویند و مجازاً برای هر یک
 مژده مستعمل شد یعنی برای غیر مولود هم پس چشم
 روشنی کسی رفتن) مصدر اصطلاحی قرار یافت
 برای مبارکباد یعنی رفتن برای تهنیت (ارو) مبارکباد
 مبارکباد که لکنه جاننا - تهنیت که لکنه جاننا -

بچشم شنیدن

مصدر اصطلاحی - بقول آرت

بجو و اندوگنا به از دیدن روحید (س) روشنگر
 بود ز نسب نامه به نیاز با پیشو چشم و نومی چشم
 مولف عرض کند که صاحب موار و شنیدن را
 بمعنی دیدن با ستاد و بین شعر آورو و صراحت
 ماخذش همدرا بخاکنیم (ارو) و کجنا -

بچشم کردن

مصدر اصطلاحی - بقول سروری

و جهانگیری در ملقات را، کنایه از انتخاب کردن -
 خاقانی) ما را چشم کرد که تا صدید او شدیم بازان
 پس چشم حمت بر ما نظر داشت با صاحب رشیدی
 بذكر معنی اول گوید که (۲) چشم رسانیدن که چشم
 زخم رسانیدن است) صاحب برهان بذكر معنی اول
 دوم فرماید که (۳) تند و تیز نگریستن صاحب جامع
 همزبانش و وارسته بذكر معنی اول گوید که (۴) وقع
 و وقار گذاشتن (طغرا) جام جم خویش را چشم کند
 چون در آید چشم جانانه با صاحب بجز ذکر هر چهار معنی
 بالا کرده و صاحب مؤید بر معنی دوم و سوم قانع و
 خان آرزو در سراج ذکر معنی اول و دوم بقول الفاظ